



Noble Quran

الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الحج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

لوگو! ڈروں پنے رب سے۔

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

بیشک بھونچاں (زلزلہ) قیامت کا ایک بڑی (ہولناک) چیز ہے۔

يَوْمَ تَرُوَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرَضَعَتْ وَتَضَعُمُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٌ حَمْلَهَا

جس دن اس کو دیکھو گے، بھول (غافل ہو) جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے پلاۓ کو (دودھ پیتے بچے کو)،

اور ڈال (گرا) دے گی ہر پیٹ (حمل) والی اپنا پیٹ (حمل)،

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ

اور ٹو دیکھے لوگوں پر نشہ (مد ہوشی)، اور ان پر نشہ (مد ہوشی) نہیں پر آفت اللہ کی سخت ہے۔

.1

.2

.3

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بعض افراد ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بن خبر،

وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ

اور ساتھ پکڑتا (پیروی کرتا) ہے ہر شیطان بے حکم کا۔

.4

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضْلِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرِ

جس (شیطان) کی قسمت میں لکھا ہے جو کوئی رفیق ہو، سو وہ اسکو بہ کائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے۔

.5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

لوگو! اگر تم کو دھوکا (شک) ہے جی اٹھنے میں (مرنے کے بعد)، تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے،

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ نَخْلَقُهُ وَعَبِيرٌ نَخْلَقُهُ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ

پھر بوند (نطفہ) سے، پھر پھٹکی (خون کے لوٹھڑے) سے،

پھر بولی سے، نقشہ بنی (شکل والی) اور بن نقشہ بنی (شکل والی)،

اس واسطے کہ تم کو کھول سنا ہیں (پر ظاہر کریں اپنی حکمت)۔

وَنُقْرِنُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

اور ٹھہر ارکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے وعدہ تک،

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشْدَدَ كُمْ

پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا (بچہ)، پھر (پرورش کرتے ہیں تمہاری) جب تک پہنچو اپنی جوانی کے زور کو،

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى

اور کوئی تم میں پورا بھر لیا (مرجاتے ہیں)،

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

اور کوئی تم میں چلا یا نکلی (لوٹا دیا جاتا ہے بدترین) عمر تک، تا (کہ) سمجھ کے پچھے (بعد) کچھ نہ سمجھنے لگے۔

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

اور ٹوڈیکھتا ہے زمین میں دبی (خشکی) پڑی،

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَأَبَتْ وَأَنْبَثَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

پھر جہاں ہم نے اُتارا اس پر پانی، تازہ ہوئی اور ابھری، اور انگائیں ہر بھانت بھانت (قسم قسم) رونق کی چیزیں۔

ذِلِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

.6

یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے تحقیق (برحق)،

وَأَنَّهُ يُحِمِّي الْمُؤْمِنَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور وہ جلاتا (زندہ کرتا) ہے مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبٌ فِيهَا

.7

اور یہ کہ قیامت آنی ہے، اس میں دھوکا نہیں۔

وَأَنَّ اللَّهَ يَعْبَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبر میں پڑوں کو۔

.8

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيبٍ

اور بعض اشخاص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بن خبر اور بن سو جھ اور بن کتاب چمکتی (روشن)۔

.9

ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى

اپنی کروٹ موڑ کر کہ (اکڑائے ہوئے گردن) بہکائے (گمراہ کرے لوگوں کو) اللہ کی راہ سے۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خَزْيٌ صَلَّى

اس کو دنیا میں رسوائی ہے،

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کی مار (جلتی آگ کا عذاب)۔

.10

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَ الْهَ

(کہا جائے گا) یہ اس پر ہے جو (اعمال) آگے بھیج چکے تیرے دوہاتھ،

وَأَنَّ اللَّهَ لِيَسِ بِظَلَالَ لِلْعَيْدِ

اور یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

.11

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ صَلَّى

اور بعض اشخاص ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر (رہ کر)۔

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ صَلَّى

پھر اگر مل گئی اس کو بھلانی، چین پڑا اس پر۔

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اتَّقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ

اور اگر مل گئی ان کو جانچ (آزمائش) پھر گیا اٹھا پنے منہ پر۔

حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

گنوائی دنیا اور آخرت۔

ذَلِكَ هُوَ الْحُسْنَاءُ الْمُبِينُ

یہی ہے ٹوٹا صریع (کھلا گھٹا)۔

ج

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُرُ كُوَمَا لَا يَنْفَعُهُ

.12

پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کہ اس کا بڑا نہیں کرتی اور ایسی کہ اس کا بھلانہیں کرتی۔

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

یہی ہے دور پڑنا (گمراہ ہونا) بھول کر۔

ج

يَدْعُونَ مَنْ ضَرُرَهُ أَقْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ

.13

پکارے جاتا ہے البتہ (اسے) جس کا ضرر (نقسان) پہلے پہنچے نفع سے۔

لِيُنْسَ الْمُؤْلَى وَلِيُنْسَ الْعَشِيرَةِ

بیشک برا ادوست ہے اور برا فیق۔

ج

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

.14

اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیسی بھلاکیاں، باغوں میں بہتی نیچے ان کے نہریں۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ

(بیشک) اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

مَنْ كَانَ يَظْلَمُ أَنَّ لَنْ يُنْصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز مدد نہ کرے گا اس کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں،

فَلَيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ

وتاتے آیک رسی آسمان کو، پھر کاٹ دے،

فَلَيَنْظُرْ هَلْ يُنْذِهَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْطُ

اب دیکھے، کیا گیا اس تدبیر سے اس کے جی کا غصہ۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ

اور یوں انتراہم نے یہ قرآن، کھلی با تین (نشانیاں)،

وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ

اور یہ ہے کہ اللہ سُو جھ (ہدایت) دیتا ہے جس کو چاہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالنَّاصِارَى وَالْمَجْوُسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

جو لوگ مسلمان ہیں، اور جو یہود ہیں، اور صابئین اور نصاری، اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللہ فیصلہ کریگا ان میں قیامت کے دن۔

.15

.16

.17

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

أَلْمُتَرَأْ إِنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

ٹونے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے،
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت، اور جانور اور بہت آدمی۔

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب۔

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

جس کو اللہ ڈیل کرے، اُسے کوئی نہیں عزت دینے والا۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ﴿١﴾

(بیشک) اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ (سجدہ)

ص

هَذَا نَحْنُ مَنْ اخْتَصَمْنَا فِي رَبِّهِمْ

یہ دو مدعی ہیں جھگڑے ہیں اپنے رب پر۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ

سوجو منکر ہوئے ان کے واسطے بیوتنے (کاٹے) ہیں کپڑے آگ کے۔

.18

.19

يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی۔

يُصَهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

(جل کر) پھر تاہے اس سے جوان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی۔

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ

اور ان کے واسطے موگریاں (گرزاں) ہیں لو ہے کی۔

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعْيُدُ وَافِيهَا

جس بار چاہا کہ نکل پڑیں اس سے گھٹنے کے مارے (گھبرا کر)، پھر ڈال دیئے اندر۔

وَذُو قُوَّا عَذَابَ الْحَرِيقِ

اور (کہا جائے گا) چکھتے رہو جلن کی مار۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اللہ داخل کریگا ان کو جو یقین لائے اور کیس بھلائیاں، باغوں میں، بہتی ان کے نیچے نہریں،

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

گھنا پہنا سیسیں گے ان کو وہاں لگن سونے کے، اور موتی،

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

اور ان کی پوشاش کی ہے وہاں ریشم کی۔

.20

.21

.22

.23

.24

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

اور راہ پائی انہوں نے ستری بات کی اور راہ پائی اس خوبیوں سرا ہے کی۔

.25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ادب والی مسجد سے،

الَّذِي جَعَلَنَا هُنَّا لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاقِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اس میں لگا رہنے والا (مقامی) اور باہر کا۔

وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ

اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ شرارت سے اسے ہم چکھائیں گے ایک دُکھ کی مار۔

.26

وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے، ابراہیم کا ٹھکانا اس گھر کا،

أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا

(اس ہدایت کے ساتھ) کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو

وَطَهَرْ بَيْتِي لِلَّطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعَ السُّجُودِ

اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لئے، اور کھڑے رہنے والوں کے

اور رکوع اور سجده والوں کے لئے۔

.27

وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَا تِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ

اور پاکار دے لوگوں میں حج کے واسطے

کہ آئیں تیری طرف پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دبے دبے اونٹوں پر، چلے آتے راہوں دورے۔

.28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ

کہ پہنچیں اپنے بھلے کی جگہوں پر،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں، ذبح پر چوپایوں مویشی کے، جو اس نے دیئے ہیں ان کو،

فَلْكُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

سو کھاؤ اس میں سے، اور کھلاو بڑے حال محتاج کو۔

.29

ثُمَّ لِيُقْصُدُوا تَفَثَّهُمْ وَلِيُوقُوا إِنْدُورَهُمْ وَلِيُطَوَّقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

پھر چاہیے نبیتیں (دور کریں) اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

.30

ذَلِكَ

یہ سُنْ چکے (تعمیر کعبہ کا مقصد)،

ق

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کے ادب کی، سو وہ بہتر ہے اس کو اپنے رب کے پاس۔

وَأَحِلْتُ لَكُمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

اور حلال ہیں تم کو چوپائے، مگر جو تم کو سناتے (بتائے جا چکے) ہیں،

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

سو بچت رہوبتوں کی گندگی سے اور بچت رہ جھوٹی بات سے۔

ج

خَنَفَاءِ اللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ

.31

ایک اللہ کی طرف کے ہو کر، نہ اس کے ساتھ سا جھی بن اکر۔

وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأْمَّا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ

اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، سو جیسے گر پڑا آسمان سے، پھر اُچکتے ہیں اس کو اڑتے جانور،

أَوْ تَهُوِيَ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

یا لے ڈالا (جا پھینکا) اُس کو باہ (ہوا) نے کسی دور مکان میں (مقام پر)۔

ذَلِكَ

.32

یہ مُنْعَچے (یہ ہے اصل معاملہ) !

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّمَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا، سودہ دل کی پرہیز گاری سے ہے۔

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ حِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

تم کو چوپایوں میں فائدے ہیں ایک ٹھہرے وعدہ (مقرر وقت) تک،

پھر (ذبح کے لئے) ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔

.33

^طوَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَذْسَأَلِيذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

اور ہر فرقے کو ہم نے ٹھہر ادی ہے قربانی، کہ یاد کریں نام اللہ کا ذبح پر چوپا یوں کے جوان کو دیئے۔

^طفَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

سوال اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سواس کے حکم میں رہو۔

^طوَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

اور خوشی شنا (بشارت دو) عاجزی کرنے والوں کو۔

^طالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

وہ کہ جب نام لبیجے اللہ کا، ڈر جائیں ان کے دل، اور سہنے (صبر کرنے) والے جوان پر پڑے،

^طوَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

اور کھڑی رکھنے والے نماز کے، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

^طوَالْبَدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

اور کعبے کے چڑھانے کے اوٹ، ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی،

تمہارا اس میں بھلا ہے۔

^طفَإِذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

سو پڑھوان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر (میں کھڑا کر کے)۔

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغَتَرَّ

پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاو صبر سے بیٹھے کو، اور یقراری کرتے کو۔

كَذَلِكَ سَخَرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اسی طرح تمہارے بس میں دیئے ہم نے وہ جانور، شاید تم احسان مانو۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكُنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ لہو، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔

كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَى لَكُمْ

اسی طرح ان کو بس میں دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر کہ تم کوراہ سمجھائی (ہدایت بخشی)۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

اور خوشی میں (بیشارت دو) احسان کرنے والوں کو۔

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

(یقیناً) اللہ دشمنوں کو ہٹادے گا ایمان والوں سے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مُلْكَ خَوَّانِ كَفُورٍ

اللہ کو خوش (پسند) نہیں آتا کوئی دغا بازنا شکر۔

أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا

حکم ہوا ان کو (جنگ کی) جن سے لوگ لڑتے ہیں (جنگ کی جارہی ہے) اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔

.37

.38

.39

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا أَنَا بْنًا اللَّهِ

وہ جن کو نکالا ان کے گھروں سے، اور کچھ دعویٰ نہیں سو اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو، ایک کو ایک سے،

هُنَّمَّتْ صَوَامِعٍ وَبَيْعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

تو ڈھائے جاتے تکنے (خانقاہیں) اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں،

جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت،

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَّ مَنْ يَنْصُرُهُ

اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کو جو مدد کرے گا اس کی۔

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

بیشک اللہ زبردست ہے زور والا۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وہ کہ اگر ہم ان کو مقدور (اقتدار) دیں ملک میں، کھڑی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ،

.40

.41

^{فَلَمَّا}
وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ

اور حکم کریں پہلے (نیک) کام کا اور منع کریں بُرے سے۔

وَإِلَهٌ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

اور اللہ کے اختیار ہے آخر (انجام) ہر کام کا۔

.42
وَإِنْ يُكَذِّبُوكُ فَقَدْ كَذَّبُتُ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ

اور اگر تجھ کو جھٹائیں، تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔

.43
وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ

اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔

.44
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
^{صَلَّى}

اور مدین کے لوگ۔

^{صَلَّى}
وَكُنْبَتُ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخْدُهُمْ

اور موسی کو جھٹایا، پھر میں نے ڈھیل دی مکروں کو، پھر ان کو پکڑا۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ

اور کیسے ہو امیر الانکار؟

.45
فَكَأَيْنُ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلُكُنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

سو کئی بستیاں ہم نے کھپا (ہلاک کر) دیں، اور وہ گنہگار تھیں،

فَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مَعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ

اب وہ ڈھے (اُٹی) پڑی ہیں اپنی چھتوں پر،

اور کتنے کنوں نکتے پڑے (ناکارہ ہیں) اور کتنے محل گج گیری (مضبوط بناوٹ) کے (ویران پڑے ہیں)۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

کیا پھرے نہیں ملک (زمین) میں،

فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

جو ان کو دل ہوتے جن سے بُوچتے، یا کان ہوتے جن سے سنتے؟

فَإِنَّمَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، پراندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب، اور اللہ ہر گز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ۔

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ فِيمَا تَعْدُونَ

اور ایک دن تیرے رب کے ہاں ہر اربس کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔

وَكَأَيْنِ مِنْ قَرِيَّةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْذَنُهَا

اور کئی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی، اور وہ گنہ گار تھیں، پھر انکو پکڑا،

.46

.47

.48

وَإِلَيْهِ الْمُصِيبُ

اور میری (ہی) طرف پھر (لوٹ) آنا ہے۔

49. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

تو کہہ، لوگو! میں تو ڈر سنا نے والا ہوں تم کو کھول کر (واضح طور پر)۔

50. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

سوجو تینیں لائے، اور کیس بھلا کیاں، ان کے گناہ بخشنے ہیں، اور روزی عزت کی۔

51. وَالَّذِينَ سَعَوا فِي آيَاتِنَا مَعَاجِزِنَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

اور جو دوڑے ہماری آیتوں کو ہراتے (نیچا دکھانے کو)، وہ ہیں لوگ دوزخ کے۔

52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا آتَمْنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، یا بنی، سوجب لگا خیال باندھنے، شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں۔

فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحِكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

پھر اللہ مٹاتا ہے شیطان کا ملایا، پھر کی کرتا ہے اپنی باتیں۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا۔

53. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ

اس واسطے کہ اس شیطان کے ملائے سے جانچے ان کو جنکے دل میں روگ ہے، اور جن کے دل سخت ہیں۔

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شُقَاقٍ بَعِيدٍ

اور گنہگار توہیں مخالفت میں دور پڑے۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّكَ

.54

اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے، کہ یہ تحقیق (حق) ہے تیرے رب کی طرف سے،

فَيَوْمَئِنْ مُّنَوِّبِهِ فَتَخْبِثُ لَهُ قُلُوبُهُمْ

پھر اس پر یقین لا سکیں اور وہیں (جھک جائیں) اس کے آگے اُن کے دل۔

وَإِنَّ اللَّهَ هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

اور اللہ سو جھانے (ہدایت دینے) والا ہے، یقین لانے والوں کو، راہ سید ہی۔

وَلَا يَرَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَعْدَهُ

.55

اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا، جب تک آپنے ان پر قیامت بے خبر (اچانک)،

أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيبٍ

یا آپنے ان کو آفت ایک (نامبارک) دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی۔

الْمُلْكُ يَوْمَئِنْ لِلَّهِ يَعْلَمُ بِيَنَهُمْ

.56

راج اس دن اللہ کا ہے۔ ان میں چکوتی (فیصلہ) کریگا۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

سو جو یقین لائے اور کیس بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ مِنْ هَذِهِنَّ

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں، سوانح کو ذلت کی مار۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الَّذِي رَزَقَنَاهُمُ اللَّهُ أَرْزَقَهُمْ حَسَنًا

اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں، پھر مارے گئے یا مر گئے پھر البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دیتا۔

لِيَدِ خِلَانَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ

البتہ پہنچائے گاؤں کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

اور (یقیناً) اللہ سب جانتا ہے تھل وال۔

ذَلِكَ

یہ سن چکے (ان کا انجام) !

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَوَقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيْنُصْرَنَّهُ اللَّهُ

اور جس نے بدله دیا (لیا) جیسا اس سے کیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے، تو البتہ اسکی مدد کرے گا اللہ۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ

پیشک اللہ در گزر کرتا ہے بخشنا۔

.61

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْجِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْجِي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

یہ اس واسطے کہ اللہ پیٹھاتا (داخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں،

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

اور (یقیناً) اللہ شنتا ہے دیکھتا۔

.62

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقْقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ

یہ اس واسطے، کہ اللہ وہی ہے صحیح (حق)، اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی ہے غلط (باطل)،

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

اور اللہ وہی ہے اُپر (بالادست اور سب سے) بڑا۔

.63

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءَفَقَتُ الْأَرْضُ فِخْرَةً

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اُتار آسمان سے پانی، پھر صحیح کو زمین ہو جاتی ہے سبز۔

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

بیشک اللہ چھپی تدبیریں جانتا ہے خبردار۔

.64

لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں میں ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيْمُ الْحَمِيدُ

اور (بیشک) اللہ وہی ہے بے پرواہ (بے نیاز)، سب خوبیوں سراہا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں،

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے۔

وَيُمْسِكُ السَّمَاءً أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

اور تمام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گڑپڑے زمین پر، مگر اس کے حکم سے مقرر۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(بیشک) اللہ لوگوں پر نرمی کرتا ہے مہربان۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْبِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ

اور اسی نے تم کو جلایا (زندگی بخشی)، پھر مارتا ہے، پھر جلانے (زندہ کرے) گا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

بیشک انسان (بڑا ہی) ناشکرا ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ

هر فرقہ (امّت) کو ہم نے ٹھہرا (مقرر کر) دی ہے ایک راہ بندگی کی، کہ وہ اس طرح کرتے ہیں بندگی،

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ

سوچا ہیئے تجھ سے جھگڑا نہ کریں اس کام میں

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

اور تو بلاۓ جا پنے رب کی طرف، بیشک تو ہے سید ھی راہ سوجا (پر)۔

وَإِنْ جَاهَ لَهُ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ ۖ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ

اور اگر جھگڑ نے لگیں تو تو کہہ، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اللہ چکوتی (فیصلہ) کریگا تم میں قیامت کے دن، جس چیز میں تم کئی راہ (اختلاف پر) تھے۔

أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ

یہ ہے لکھا تاب میں۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

(بیشک) یہ (کام) اللہ پر آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ

اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، جس کی سند نہیں اتاری اُس نے اور جس کی خبر نہیں اُن کو۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيبٍ

اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مدد گار۔

.68

.69

.70

.71

وَإِذَا نُتْلِي عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بِيَنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ^ص

اور جب سنائے ان کو ہماری آئیں صاف، تو پہنچانے منکروں کے منه بڑی شکل۔

يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَلَوَّنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا^ص

زدیک ہوتے ہیں کہ دوڑ (لوٹ) پڑیں اُن پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آئیں۔

فُلْ أَفَأُنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ^ص

تو کہہ، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس سے بُری!

الَّذِي رَوَّعَ دَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا^ص

وہ آگ ہے۔ اس کا وعدہ دیا ہے اللہ نے منکروں کو۔

وَبِئْسَ الْمُحْبِرُ

اور بہت بُری ہے پھر (لوٹ) جانے کی جگہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِبْ مَثْلُ فَآسْتَمْعُوا لَهُ^ج

لوگو! ایک کھاوت کھی ہے اس کو کان (دھیان میں) رکھو۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ^ص

جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے، ہر گز نہ بنا سکیں ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہوں۔

وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَقِدُهُ مِنْهُ^ج

اور اگر کچھ چھین لے اُن سے مکھی، چھڑانہ سکیں وہ اس سے۔

ضعف الطالب والمطلوب

بودا (کمزور) ہے (مد) چاہنے والا اور (وہ بھی) جن کو (سے مدد) چاہتا ہے۔

مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَتَّىٰ قَدِيرٌ

.74

اللہ کی قدر نہیں سمجھی جیسی اس کی قدر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

پیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔

اللَّهُ يَصُطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسْلَأً وَمِنَ النَّاسِ

.75

اللہ چھانٹ (منتخب کر) لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

(پیشک) اللہ سنتا ہے دیکھتا۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

.76

جانتا ہے جوان کے آگے اور جوان کے پیچے۔

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كَعْوَا وَاسْجَدُوا وَاعْبُدُوا وَارْبَكُمْ

اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی،

وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾

اور بھلانی کرو شاید تم بھلانا پاو۔ (سجدہ)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

اور محنت (جہاد) کرو اللہ کے واسطے، جو چاہئے اس کی محنت۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل۔

إِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔

هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَ فِي هَذَا

اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان حکم بردار۔ پہلے سے اور اس قرآن میں،

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُو اشْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

تا (کر) رسول ہوبتا نے والا تم پر، اور تم ہوبتا نے والے لوگوں پر۔

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَا

سوکھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور گٹھ (مضبوط) پکڑو اللہ کو۔ وہ تمہارا صاحب ہے۔

فَنِعْمَ الْمُؤْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

سو خوب صاحب ہے اور خوب مددگار۔

© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com